

16 اکتوبر 2018

## تفریح کے لیے استعمال ہونے والی بھنگ کو قانونی بنانے جانے کی تیاری کے عمل میں برامپٹن حفاظتی اقدامات کی ترجیح پر زور دیتا ہے

برامپٹن، آن – 17 اکتوبر 2018 کو تفریحی بھنگ کو قانونی بنانے جانے سے پہلے، سٹی آف برامپٹن رہائشیوں سے گزارش کرتا ہے کہ وہ تفریحی بھنگ کے استعمال یا اس کی ملکیت کے دوران اپنی سلامتی کو پہلی ترجیح دیں۔

برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ پچھلے پانچ سال کے دوران گھروں میں لگنے والی جان لیوا آگ میں سے 31 فیصد کے وجہ غیر موزوں طریقے سے پھینکی گئی تمباکو کی طرح جلا کر پی جانے والی چیزیں تھیں۔ بھنگ پینے پر تمباکو کی طرح ہی قوانین لاگو کیے جائیں گے اور بھنگ استعمال کرنے والے لوگوں کو اپنی، اپنے خاندانوں، بچوں، پالتو جانوروں اور جانیدادوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے محفوظ استعمال کے حوالے سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔

### آگ سے حفاظت

بھنگ استعمال کرنے والے افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے زیر اثر کھانا نہ پکائیں۔ رہائشیوں کو اس بارے میں بھی یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ فی گھرانہ بھنگ کے چار پودوں کی قانونی حد سے زیادہ نہ آگائیں اور اپنے بجلی کے نظام میں کسی قسم کی تبدیلیاں یا زیادہ حرارت والے لیمپس استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ آگ کا شدید خطرہ پیدا کرتے ہیں۔

### بھنگ کہاں ممنوع ہے

ان مقامات پر بھنگ استعمال کرنا ممنوع ہے جہاں پر سگریٹ نوشی ممنوع ہو، مثلاً بند عوامی جگہیں/جائے کار، بچوں کے کھیل کے میدانوں اور پارکس میں کھیلنے کی جگہوں کے 20 میٹر کے دائرے میں، عوامی کھیلوں کی جگہیں (مثلاً اسپلش بیڈز، ساکر کے میدان) اور تمام بارز اور ریستورینٹ پیشیوز۔ ممنوع مقامات کی مکمل فہرست کے لیے، سٹی کی ویب سائٹ پر [کنٹریٹ سے بوجھے جانے والے سوالات کا حصہ](#) ملاحظہ فرمائیں۔

### کس سے رابطہ کرنا چاہیے

سٹی آف برامپٹن، بمعہ ریجن آف پبل، شہر کی املاک پر، مثلاً میونسپل کی عمارات، تفریحی مراکز، ٹرانزٹ شیلٹرز اور بچوں کے کھیلنے کی جگہوں، بشمول پارکس کے اندر، اس کے استعمال کے متعلق شکایات کو سنے گا۔ رہائشی 311 پر کال کر کے یا [311@brampton.ca](mailto:311@brampton.ca) پر ای میل بھیج کر اس قسم کے خدشات کے بارے میں اطلاع دے سکتے ہیں۔ صرف ہنگامی حالت میں ہی 911 کو کال کریں۔

بھنگ کے نشے میں گاڑی چلانے، کم عمر استعمال کنندگان کو بیچنے اور غیر قانونی طور پر بھنگ کی ملکیت کے حوالے سے واقعات کے متعلق پیل ریجنل پولیس سے رابطہ کریں۔

- ہنگامی حالات: 911
- غیر ہنگامی حالات: 905.453.3311
- پیل کرائم اسٹاپرز: 1.800.222.8477

بھنگ کے حوالے سے صحت سے متعلقہ معلومات کے لیے، پیل پبلک ہیلتھ سے 905.799.7700 پر رابطہ کریں یا گورنمنٹ آف کینیڈا کی [کینیڈا میں بھنگ](#) کے متعلق سرکاری معلومات ملاحظہ کریں۔

### بھنگ کے ریٹل اسٹورز

نئی سٹی کونسل (مؤثر از 1 دسمبر 2018) اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آیا برامپٹن میں بھنگ کو ریٹیل کی سطح پر بیچنے والے اداروں کو اجازت دی جائے گی یا نہیں۔ صوبہ اونٹاریو اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ فیصلہ 22 جنوری 2019 تک کر لیا جائے۔ سٹی کا عملہ بھنگ کے ریٹل اسٹورز کے بارے میں ایک "برائے معلومات" رپورٹ پر کام کر رہا ہے، جو نئی کونسل کو 5 دسمبر 2018 کو پیش کی جائے گی، تاکہ انہیں ایک باخبر فیصلہ کرنے میں مدد دی جا سکے۔

اکتوبر کے اختتام پر، سٹی اس بارے میں شہریوں کی رائے کا اندازہ لگانے کے لیے ایک رائے شماری کروائے گا کہ آیا برامپٹن کو ریٹیل کی سطح پر بھنگ کے اسٹورز کا فیصلہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس رائے شماری کے نتائج اجازت دینے/نہ دینے کا فیصلہ کرنے پر غور کرنے کے لیے رپورٹ کے حصے کے طور پر کونسل کو فراہم کیے جائیں گے۔

### نشے کی حالت میں ڈرائیونگ

پیل ریجنل پولیس کے لیے سڑکوں پر حفاظت انتہائی حد اہمیت رکھتی ہے اور افسران کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ منشیات کے زیر اثر ڈرائیورز کی شناخت کر لیں۔ منشیات کے زیر اثر ڈرائیونگ کے جرم کے تحت سزا پانے والے لوگوں کو انہی نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو شراب کے نشے میں دھت لوگوں کو بھگتنے پڑتے ہیں، جس میں شامل ہو سکتے ہیں: فوری طور پر لائسنس کی معطلی، جرمانے، گاڑی کو ضبط کرنا، مجرم کے طور پر ریکارڈ اور جیل میں قید کرنا۔

نوجوان، نئے اور کمرشل ڈرائیورز کے لیے کوئی برداشت نہیں ہو گی۔ اگر آپ کمرشل ڈرائیور، 22 سال سے کم عمر ڈرائیور یا ایک G1، G2، M1 یا M2 لائسنس کے حامل ڈرائیور ہیں، تو آپ کے جسم میں طبی طور پر غیر تجویز شدہ بھنگ کی تھوڑی سی مقدار بھی غیر قانونی ہے۔

### بھنگ پاس رکھنا

عوامی طور پر خشک بھنگ رکھنے کی حد زیادہ سے زیادہ 30 گرام (تقریباً ایک اونس) ہے۔ فی گھر زیادہ سے زیادہ چار پودوں کی اجازت ہے (فی شخص نہیں) اس کے بارے میں اضافی معلومات پیل ریجنل پولیس کے [بھنگ اور قانون کے ویب پیج](#) سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

### اقتباسات

"کمیونٹی کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس میں بھنگ کے استعمال، تیاری اور اگانے کے حوالے سے حفاظت کے متعلق خدشات کو فروغ دینا اور عوامی مقامات پر بھنگ کے استعمال کے قوانین کا نفاذ شامل ہے۔ سٹی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کمیونٹی کی حفاظت اولین ترجیح رہے، اپنے شراکت داروں اور صوبائی و وفاقی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا جاری رکھے گا۔  
- میئر لنڈا جیفری

"جیسا کہ تفریحی بھنگ قانونی بن رہی ہے، ہمیں بحیثیت ایک کمیونٹی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مل جل کر کام کرنا ہو گا کہ ہمارے علاقے ہر کسی کے لیے محفوظ اور پرلطف ہوں۔ بے شک آپ عوامی جگہوں پر بھنگ استعمال کر رہے ہوں یا اپنے گھر میں، ہم اپنے رہائشیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی اور پوری کمیونٹی کی حفاظت کا خیال رکھیں۔"  
- ریجنل کونسلر اور چیئر، کمیونٹی سروسز، مائیکل پیلاسچی

"آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں برامپٹن میں آگ لگنے کے جان لیوا واقعات جیسے سانحات دیکھے ہیں اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی کسی بھی قسم کے جلا کر پی جانے والے مواد کے استعمال میں حفاظت کے لیے پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ اس پر کئی زندگیوں کا انحصار ہوتا ہے۔"  
- فائر چیف بل بوائز، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

"ہم جانتے ہیں کہ بھنگ کے حوالے سے نئے قوانین کا نفاذ ہونے پر مطابقت پیدا کرنے میں کچھ عرصہ لگے گا۔ کمیونٹی کی حفاظت ہر صورت میں ہماری اولین ترجیح ہے اور ہم عوام کو اپنی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے درکار معلومات فراہم کرنے کے لیے کمیونٹی میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ قریب سے کام کرنا جاری رکھیں گے۔"  
- سپرٹینڈنٹ مینونیل روڈ رگس، پیل ریجنل پولیس

متنوع اربن سیٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) | 905.874.3654

سرچینٹ میٹ برٹرام

پبلک انفارمیشن اینڈ میڈیا ریلیشنز

پبل ریجنل پولیس

4030 ایکسٹینشن 905-453-2121